

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهِ كَيْ رَاسْتِي مِيں خَرْجِ كَرْنِي وَالُوں كِي مِثَالِ  
 مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ  
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 261)

ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی  
 مثال کی طرح ہے جس نے سات بالیاں اکائیں ہر بالی میں سو دانے ہیں اور اللہ  
 جس کے لیے چاہتا ہے ( اور بھی زیادہ) بڑھا دیتا ہے اور اللہ وسعت والا ، خوب  
 جاننے والا ہے۔

### اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فائدے



### کرنے کے کام

- ✓ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں اگرچہ کھجور ہی کیوں نہ ہو
- ✓ اپنے ہاتھ کی محنت سے صدقہ دیں
- ✓ جو بھی وسائل یا صلاحیتیں ہوں ان کو استعمال کر کے نیکی کمائیں
- ✓ جو چیز بھی پاس ہو اس میں سے تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتے رہیں

